

شریچہ اکیڈمی
بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی شاہ فیصل مسجد اسلام آباد

گیارہواں قانون اسلامی، اختصاصی مطالعہ: اصول فقہ

11th Advanced Correspondence Course in Islamic Jurisprudence

☆ داخلہ فارم ☆

نام (اردو میں)	والد کا نام (اردو میں)
نام (انگریزی میں)	والد کا نام (انگریزی میں)
تاریخ پیدائش / عمر	جنس
تعلیمی قابلیت	پیشہ وارانہ قابلیت
ادارہ	پیشہ / عہدہ
پتہ برائے خط و کتابت (انگریزی میں)	
پتہ برائے خط و کتابت (اردو میں)	
مستقل پتہ (انگریزی میں)	

ای میل ایڈریس:

فون (دفتر)	فون (رہائش)	موبائل نمبر
فیس داخلہ بذریعہ ڈرافٹ نمبر	مورخہ	مبلغ
روپے		

(براہ کرم ڈرافٹ کی پشت پر اپنا مکمل نام، ولدیت اور پتہ لازمی لکھیں)

☆ میں اقرار کرتا/ کرتی ہوں کہ داخلہ کی صورت میں کورس سے متعلق تمام قوانین اور طریق کار کی پابندی کروں گا/ گی اور مقررہ وقت کے اندر مشقی کام مکمل کر کے اکیڈمی کو ارسال کروں گا/ گی۔

دستخط امیدوار

مورخہ

تصدیق نامہ

فیس میں رعایت کی اہلیت ہونے پر قانون کے طالب علم اپنے کالج یونیورسٹی کے پرنسپل / ڈین سے، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے اساتذہ و طلبہ اپنے ڈین سے، عدلیہ اور اس کے ماتحت اداروں کے ملازمین اور مسلح افواج سے منسلک افراد اپنے افسر مجاز سے مندرجہ ذیل بیانات میں سے متعلقہ حصہ کی تصدیق کروائیں۔

☆ تصدیق کی جاتی ہے کہ مسلم / مسماة _____ ولد / بنت _____ کالج یونیورسٹی / بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا آج مورخہ _____ کو باقاعدہ طالب علم / ملازم ہے۔

☆ تصدیق کی جاتی ہے کہ مسلم / مسماة _____ ولد / بنت _____ محکمہ نمبر _____ کے تحت آج مورخہ _____ کو عدلیہ / مسلح افواج کا باقاعدہ ملازم ہے اور اپنی تنخواہ اور مراعات (مسلح افواج کی صورت میں) دفاعی بجٹ سے وصول کرتا/ کرتی ہے۔

دستخط و مہر پرنسپل / ڈین / افسر مجاز

صرف دفتری استعمال کے لیے

فیس وصول پائی	رجسٹریشن نمبر
دستخط متعلقہ کلرک	دستخط نگران کورس

اہم ہدایات: فارم کا کوئی متعلقہ خانہ خالی نہ چھوڑیں۔ صرف مندرجہ ذیل دستاویزات لازماً ارسال کریں اور غیر ضروری دستاویزات نہ بھیجیں:

1۔ مکمل مطلوبہ فیس کا ڈرافٹ / پے آرڈر (چیک قابل قبول نہیں ہیں)۔

2۔ قانون / گریجویٹیشن کی سند کی مصدقہ نقل۔

3۔ اس فارم کی فوٹو کاپی بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔ کورس کے بارے میں باقی تفصیل فارم کی پشت پر ملاحظہ فرمائیں۔

4۔ اگر آپ نے یہ کورس کر لیا ہے تو فارم اپنے دوست و احباب کو دے دیں۔

گیارہواں قانون اسلامی، اختصاصی مطالعہ: اصول فقہ

(ہدایات برائے داخلہ)

مطالعہ اسلامی قانون (بذریعہ خط و کتابت) ابتدائی سے اب تک ہزاروں افراد مستفید ہو چکے ہیں۔ اس کی بے مثال مقبولیت اور کامیابی کے بعد شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے اسلامی قانون میں مختلف قسم کے اختصاصی (Advanced) کورس کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے پہلے مرحلے میں **قانون اسلامی، اختصاصی مطالعہ: اصول فقہ (Advanced Correspondance Course in Islamic Jurisprudence)** کے دسویں کورس میں داخلہ کا اعلان کیا جاتا ہے۔

اس کورس کا مقصد قانون دان خواتین و حضرات بالخصوص اور عام گریجویٹ کو بالعموم اصول فقہ (Islamic Jurisprudence) کا اختصاصی (Advanced) مطالعہ کرانا ہے۔ اسلامی قانون کی بنیادی کتب کی مدد سے تیار کردہ اصول فقہ پر ۲۴ کتابچوں پر مشتمل یہ کورس ایک سالہ دورانیہ کا ہے۔ خواہش مند خواتین و حضرات کو مکمل کورس کا مواد بارہ بارہ کتابچوں پر مشتمل دو اقساط میں بذریعہ رجسٹرڈ ڈاک مع تعلیمی شیڈول کے بھیجا جائے گا۔ ہر کتابچے کے لیے ایک سوالنامہ ہوگا جس کے جوابات جوابی لفافہ کے ساتھ مقررہ مدت کے اندر اکیڈمی کو بھیجنا ہوں گے۔ جوابات کی جانچ پڑتال اور نمبر لگانے کے بعد متعلقہ فرد کو یہ جوابات واپس بھیج دیئے جائیں گے۔ چالیس فی صد نمبر حاصل کرنے والے کامیاب اصحاب کو اسناد جاری کر دی جائیں گی۔

شرائط داخلہ و اہلیت: اردو پڑھنے لکھنے کی صلاحیت سے بہرہ مند قانون دان اصحاب جیسے جج، وکلاء، لاکالوجوں کے اساتذہ و طلباء اور دوسرے تمام قانون دان داخلے کے اہل ہیں۔ عام گریجویٹ خواتین و حضرات بھی کورس میں داخلے کے اہل ہیں۔

داخلہ فیس: ہر امیدوار کو کورس کے ۲۴ خوبصورت مطبوعہ کتابچے بھیجے جائیں گے جن کی قیمت بشمول رجسٹریشن فیس، پرچوں کی جانچ پڑتال فیس مع ڈاک خرچ برائے ترسیل کتب مبلغ اٹھارہ سو روپے (-/1800 Rs) لی جائے گی۔ یہ فیس بذریعہ کراؤنڈ بینک ڈرافٹ جو متعلقہ بینک کی کسی بھی برانچ سے کیش کروایا جاسکے بنام شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد ارسال کریں۔ مکمل فیس کورس شروع ہونے سے قبل ادا کرنا لازمی ہے۔ چیک اور نقد رقم قبول نہیں کی جائے گی۔ بیرون ملک مقیم خواہش مند درخواست دہندگان کے لیے فیس داخلہ ایک سو پچاس امریکی ڈالر (\$150) ہے جسے وہ مساوی روپوں میں ارسال کریں۔

داخلہ فیس میں رعایت: لاکالوجوں کے طلبہ، عدلیہ اور اس کے ماتحت اداروں کے ملازمین، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے ملازمین (پانچ ملازمین تک) اور طلبہ قانون اور مسلح افواج کے جملہ اہل ملازمین (بشمول دفاعی بجٹ سے تنخواہ پانے والے سویلین) کو فیس میں پچاس فی صد رعایت حاصل ہے۔ یہ افراد اپنے افسر مجاز پر سپیل رڈین سے داخلہ فارم پر لازماً اس امر کی تصدیق کروائیں گے کہ وہ طالب علم ملازم ہیں۔ اس کے علاوہ فیس میں رعایت کی کوئی صورت نہیں ہے۔

داخلے کا طریقہ کار: 8 روپے کے ڈاک ٹکٹ کے ساتھ جوابی لفافہ بھیج کر شریعہ اکیڈمی سے داخلہ فارم مفت منگوایا جاسکتا ہے، یا یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.iiu.edu.pk سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے، یا اس لنک پر آن لائن داخلہ فارم فل کریں۔ <http://goo.gl/forms/DU2MQmo4YP>

آخری تاریخ داخلہ: فارم داخلہ فیس کے ساتھ جمع کروانے کی آخری تاریخ ۷ جولائی ۲۰۱۵ء ہے۔

براہ کرم فارم کے ساتھ بینک ڈرافٹ اور صرف قانون کی ڈگری رگریجیشن مصدقہ نقول ارسال کریں۔ تمام امیدواروں کو اگست کے دوسرے ہفتے تک کورس کا مواد ارسال کر دیا جائے گا، اس لیے اگست ۲۰۱۵ء سے قبل خط و کتابت بے مقصد ہوگی۔

شعبہ فاصلاتی تعلیم

شریعہ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، شاہ فیصل مسجد، اسلام آباد

فون: 287-Ext: 051-9261761-65, 2289771-75

فیکس: 051-9261383